

حفاظت اور اپنے خاوند کی فرماں برداری کرے اور ایسی حالت میں فوت ہو جائے تو جنت کے آٹھوں دروازے ایسی عورت کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اے نیک عورت جنت میں داخل ہونے کے لیے میرے اندر سے گزر کر جا، مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میری ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔

حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری مدظلہم نے گلوگیر آواز میں جنازہ کی امامت کرائی۔ بعد ازاں تدفین کے لیے اسلامک یونیورسٹی لاہور روڈ پر حضرت قاری محمد طیب حنفی صاحب زید مجدہم نے مسجد سے متصل جگہ ذاتی طور پر خرید کر قبرستان کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، وہاں تدفین ہوئی، راقم کو قبر میں اتارنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بعد ازاں تدفین مولانا محمد حنیف جالندھری نے مسنون دعا کروائی۔ ملک بھر سے دینی حلقوں، اہل مدارس اور ممتاز شخصیات نے مرحومہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی دینی و تعلیمی اور تدریسی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے، بلاشبہ باحالات موجودہ وہ اعمالِ صالحہ کے احیاء کے لیے زندگی گزار کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گئیں۔

### تصحیح و اعتذار

گذشتہ شمارہ ماہ شوال المکرم ۱۴۳۸ھ میں مقالہ ”حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور حاشیہ آثار السنن“ میں پروف کی بعض غلطیاں رہ گئیں، درست عبارات پیش خدمت ہیں، محترم قارئین نوٹ فرمائیں:

۱۔ شمارے کا ص ۲۳ اور مضمون کا پہلا صفحہ: لم تری العیون مثله ولا یری مثله اور صحیح عبارت لم تری العیون مثله ولا یری ہوشل نفس۔

۲۔ شمارے کا صفحہ ۱۲۴ اور مضمون کا ص ۲ تیسری سطر و کان کلما سنع لحاظہ الشریف شیء من حل تلك المعضلات کے بعد ایک سطر کے برابر عبارت رہ گئی ہے جو یہ ہے قیدہ فی تذکرته و اذوقف فی کتب القوم علی شیء تنحل به بعض المعضلات احوال الیہ الخ۔۔۔

۳۔ شمارے کا صفحہ ۲۵ اور مضمون کا صفحہ ۳ عربی عبارت ہے فلما طبع الكتاب صحیح عبارت ہے فلما تم طبع الكتاب۔

۴۔ اسی سطر میں ہے ادلة و ابحاث و فوائد صحیح یوں ہے ادلة و ابحاث و نکات و فوائد۔

۵۔ اسی پیرا گراف کی تیسری سطر میں ہے اما بنقل عبارة او برمز صفحة صحیح عبارت اس طرح ہے اما بنقل عبارة اوحوالہ برمز صفحة۔

۶۔ شمارے کا صفحہ ۲۶ اور مضمون کا صفحہ ۴ عربی عبارت ہے علقها الشيخ الكشمیری علی كتاب آثار